



ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން

2	2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 260
22	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 261
22	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 262
27	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 263
31	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 264
31	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 265
31	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 266
32	ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ ގުޅިގެން	UC 267

2015 يىلى دىكى تىل ئىنستىتوتى تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى

**UC  
260**

ئىسپان تىل ئىنستىتوتى: 01 ئىنستىتوت 2015 | جەمئىي: 175

2014 يىلى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئىسپان تىل ئىنستىتوتى 2015 يىلى دىكى تىل ئىنستىتوتى تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسىنى ئىسپان تىل ئىنستىتوتىغا تەقدىم قىلدى. ئىسپان تىل ئىنستىتوتى تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسىنى ئىسپان تىل ئىنستىتوتىغا تەقدىم قىلدى.

**ئىسپان تىل ئىنستىتوتى تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى**

2014 يىلى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئىسپان تىل ئىنستىتوتى تەتقىقاتىنىڭ نەتىجىسى

ئىسپان تىل ئىنستىتوتى

ئىسپان تىل ئىنستىتوتى

مەزمۇن	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	#
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000028060	1
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000037618	2
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000005003	3
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000037375	4
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000034257	5

ئىسپان تىل ئىنستىتوتى

مەزمۇن	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	#	مەزمۇن	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	#
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024247	7	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000011214	1
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024854	8	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000018911	2
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000012728	9	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024850	3
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024844	10	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024846	4
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000006152	11	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024848	5
ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000012767	12	ئىسپان تىل ئىنستىتوتى	000024147	6

فہرست کتابوں کے نام اور نمبر

#	کتاب کا نام	#	کتاب کا نام
1	000033095	13	000032576
2	000010251	14	000033085
3	000003286	15	000010282
4	000033042	16	000032743
5	000004572	17	000001715
6	000011132	18	000033614
7	000015820	19	000013443
8	000029880	20	000028175
9	000032392	21	000015131
10	000032374	22	000015477
11	000032469	23	000033342
12	000010475		

کتابوں کے نام اور نمبر

کتابوں کے نام اور نمبر

#	کتاب کا نام	#	کتاب کا نام
1	000033034	5	000035478
2	000030483	6	000031073
3	000025415	7	000016858
4	000032571	8	000002594

کتابوں کے نام اور نمبر

#	کتاب کا نام
1	000026066
2	000026086



نہج قرآنیہ کی روشنی میں اسلامی تعلیم و تربیت - حصہ اول

#	قرآنیہ کی روشنی میں	#	موضوع	قرآنیہ کی روشنی میں	#
1	000011138	24	مذہبِ نبویؐ	000037429	24
2	000010358	25	مذہبِ نبویؐ	000035124	25
3	000018684	26	مذہبِ نبویؐ	000031254	26
4	000026768	27	مذہبِ نبویؐ	000010424	27
5	000029177	28	مذہبِ نبویؐ	000026808	28
6	000006111	29	مذہبِ نبویؐ	000028310	29
7	000031293	30	مذہبِ نبویؐ	000015175	30
8	000015134	31	مذہبِ نبویؐ	000037326	31
9	000037000	32	مذہبِ نبویؐ	000030642	32
10	000024001	33	مذہبِ نبویؐ	000010387	33
11	000035384	34	مذہبِ نبویؐ	000028658	34
12	000033112	35	مذہبِ نبویؐ	000026875	35
13	000035604	36	مذہبِ نبویؐ	000023785	36
14	000028835	37	مذہبِ نبویؐ	000030636	37
15	000035926	38	مذہبِ نبویؐ	000028691	38
16	000002073	39	مذہبِ نبویؐ	00001198	39
17	000011305	40	مذہبِ نبویؐ	00006077	40
18	000031306	41	مذہبِ نبویؐ	000033067	41
19	000033161	42	مذہبِ نبویؐ	000028357	42
20	000010376	43	مذہبِ نبویؐ	000010347	43
21	000007915	44	مذہبِ نبویؐ	000036414	44
22	000027744	45	مذہبِ نبویؐ	000028665	45
23	000031308	46	مذہبِ نبویؐ	000031246	46

تفہیم آئی آر ایس کے مختلف حصوں کی تفہیم

تفہیم	تفہیم نمبر	#	تفہیم	تفہیم نمبر	#
آئی آر ایس	000028636	6	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032339	1
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000033338	7	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000020319	2
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032805	8	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032865	3
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000001527	9	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032340	4
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000024187	10	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000005753	5

تفہیم آئی آر ایس کے مختلف حصوں کی تفہیم

تفہیم	تفہیم نمبر	#	تفہیم	تفہیم نمبر	#
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000000497	6	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000023427	1
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000028084	7	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000021176	2
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000002662	8	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000023961	3
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000002339	9	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000005160	4
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000028301	10	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000023464	5

تفہیم آئی آر ایس کے مختلف حصوں کی تفہیم

تفہیم	تفہیم نمبر	#	تفہیم	تفہیم نمبر	#
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000026039	8	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000023888	1
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032342	9	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000030832	2
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032574	10	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000014093	3
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000004575	11	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000032782	4
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000008902	12	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000026230	5
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000008519	13	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000025238	6
آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000028423	14	آئی آر ایس کے مختلف حصوں	000004494	7

کتابخانه عمومی آیت الله العظمیٰ بروجردی قمی

ردیف	شماره ثبت کتاب	#	ردیف	شماره ثبت کتاب	#
1	000033547	20	20	000032438	1
2	000032816	21	21	000033041	2
3	000032378	22	22	000032755	3
4	000033026	23	23	000033186	4
5	000032779	24	24	000023957	5
6	000033594	25	25	000033361	6
7	000033257	26	26	000033001	7
8	000032606	27	27	000033732	8
9	000033310	28	28	000032710	9
10	000034214	29	29	000028208	10
11	000032453	30	30	000007165	11
12	000032372	31	31	000032680	12
13	000012793	32	32	000032593	13
14	000024107	33	33	000033356	14
15	000028146	34	34	000033048	15
16	000032419	35	35	000032567	16
17	000029145	36	36	000033032	17
18	000023701	37	37	000033393	18
19	000002854	38	38	000032579	19

کتابخانه عمومی آیت الله العظمیٰ بروجردی قمی - 7

ردیف	شماره ثبت کتاب	#	ردیف	شماره ثبت کتاب	#
1	000007627	10	10	000014714	1
2	000006118	11	11	000006205	2
3	000038602	12	12	000005098	3
4	000007632	13	13	000003631	4

دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000004297	14	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000011174	5
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	00008002	15	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000003607	6
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000031674	16	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000010212	7
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000005623	17	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000004891	8
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000000821	18	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000038613	9

دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ - دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ

دَئِیْرَیْ	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	#
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000038519	1
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000038623	2
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000011190	3
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000007731	4

دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ

دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ

دَئِیْرَیْ	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	#	دَئِیْرَیْ	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	#
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000033057	5	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000012048	1
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000034193	6	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000033633	2
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000012628	7	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000030501	3
دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000014804	8	دَئِیْرَیْ دَئِیْرَیْ	000030680	4



فہرست نامہ ذریعہ سرکاری

ذریعہ نامہ ذریعہ سرکاری

مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#	مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#
مردم	000025788	5	مردم	000030632	1
مردم	000030851	6	مردم	000002138	2
مردم	000021705	7	مردم	000025838	3
مردم	000028628	8	مردم	000026794	4

ذریعہ نامہ ذریعہ سرکاری

مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#	مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#
مردم	00003086	7	مردم	00008720	1
مردم	000038587	8	مردم	000036871	2
مردم	000036869	9	مردم	000013530	3
مردم	000038688	10	مردم	000025619	4
مردم	000038544	11	مردم	000038616	5
مردم	000017449	12	مردم	000022222	6

ذریعہ نامہ ذریعہ سرکاری

مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#	مردم	فہرست نامہ ذریعہ سرکاری	#
مردم	000031134	5	مردم	000020248	1
مردم	000035000	6	مردم	000030447	2
مردم	000021481	7	مردم	000026084	3
			مردم	000021597	4

موضوع	قریبونو سرلیکونه	#	موضوع	قریبونو سرلیکونه	#
د پښتو ژبې د تریکونو د پښتو	00008964	26	د پښتو ژبې د پښتو د پښتو	00008141	1
د پښتو ژبې د پښتو	000013672	27	د پښتو ژبې د پښتو د پښتو	00008713	2
د پښتو ژبې د پښتو د پښتو د پښتو	000013691	28	د پښتو ژبې د پښتو	000021444	3
د پښتو ژبې د پښتو	000018001	29	د پښتو ژبې د پښتو	000030463	4
د پښتو ژبې د پښتو	000035117	30	د پښتو ژبې د پښتو	000016320	5
د پښتو ژبې د پښتو	00006528	31	د پښتو ژبې د پښتو	000028253	6
د پښتو ژبې د پښتو	000012607	32	د پښتو ژبې د پښتو	000025863	7
د پښتو ژبې د پښتو	000024037	33	د پښتو ژبې د پښتو د پښتو	000033667	8
د پښتو ژبې د پښتو	000035114	34	د پښتو ژبې د پښتو	000008370	9
د پښتو ژبې د پښتو	000012743	35	د پښتو ژبې د پښتو	000021178	10
د پښتو ژبې د پښتو	000009018	36	د پښتو ژبې د پښتو	000012407	11
د پښتو ژبې د پښتو	000021301	37	د پښتو ژبې د پښتو	000030664	12
د پښتو ژبې د پښتو	000030445	38	د پښتو ژبې د پښتو	000024049	13
د پښتو ژبې د پښتو د پښتو د پښتو	000034935	39	د پښتو ژبې د پښتو	000010111	14
د پښتو ژبې د پښتو	00005158	40	د پښتو ژبې د پښتو	000030462	15
د پښتو ژبې د پښتو	000015027	41	د پښتو ژبې د پښتو	000031670	16
د پښتو ژبې د پښتو	000022184	42	د پښتو ژبې د پښتو	00005777	17
د پښتو ژبې د پښتو د پښتو	000020464	43	د پښتو ژبې د پښتو د پښتو	000035131	18
د پښتو ژبې د پښتو	000012492	44	د پښتو ژبې د پښتو	000016946	19
د پښتو ژبې د پښتو	000018864	45	د پښتو ژبې د پښتو	000035376	20
د پښتو ژبې د پښتو	000012595	46	د پښتو ژبې د پښتو	000026260	21
د پښتو ژبې د پښتو	000010354	47	د پښتو ژبې د پښتو	000028088	22
د پښتو ژبې د پښتو	000012320	48	د پښتو ژبې د پښتو	000012601	23
د پښتو ژبې د پښتو	000016682	49	د پښتو ژبې د پښتو	000028932	24
د پښتو ژبې د پښتو	000030440	50	د پښتو ژبې د پښتو	000025977	25



**ژانرې ټول ترسره شوي دنده چې ترسره شوې دي**

**دغه دنده ترسره شوې دي، چې دنده ترسره شوې دي**

موند	ترسره شوي سندونه	#	موند	ترسره شوي سندونه	#
برسره شوي دنده	000036835	4	دنده ترسره شوي دنده	000037623	1
دنده ترسره شوي دنده	000039007	5	دنده ترسره شوي دنده	000037974	2
دنده ترسره شوي دنده	000031156	6	دنده ترسره شوي دنده	000024620	3
دنده ترسره شوي دنده	000038930	7			

**دغه دنده ترسره شوې دي، چې دنده ترسره شوې دي**

موند	ترسره شوي سندونه	#
دنده ترسره شوي دنده	000008662	1
دنده ترسره شوي دنده	000028996	2

**دنده ترسره شوي دنده چې ترسره شوې دي، چې دنده ترسره شوې دي**

موند	ترسره شوي سندونه	#
دنده ترسره شوي دنده	000004322	1
دنده ترسره شوي دنده	000029475	2
دنده ترسره شوي دنده	000004680	3
دنده ترسره شوي دنده	000030640	4
دنده ترسره شوي دنده	00014132	5
دنده ترسره شوي دنده	000025149	6

**دنده ترسره شوي دنده چې ترسره شوې دي، چې دنده ترسره شوې دي**

موند	ترسره شوي سندونه	#
دنده ترسره شوي دنده	000032930	1
دنده ترسره شوي دنده	000002871	2

مذکورہ ذیل سہ ماہیہ پر تعلق رکھنے والے مروجہ و غیر مروجہ

#	مذکورہ سہ ماہیہ	نمبر
1	00002067	مذکورہ سہ ماہیہ
2	000026178	مذکورہ سہ ماہیہ
3	000032366	مذکورہ سہ ماہیہ
4	000008114	مذکورہ سہ ماہیہ
5	000032664	مذکورہ سہ ماہیہ
6	000004122	مذکورہ سہ ماہیہ

مذکورہ ذیل سہ ماہیہ پر تعلق رکھنے والے

مذکورہ ذیل سہ ماہیہ پر تعلق رکھنے والے - ذیل

#	مذکورہ سہ ماہیہ	نمبر
1	000032962	مذکورہ سہ ماہیہ
2	000013065	مذکورہ سہ ماہیہ
3	000026761	مذکورہ سہ ماہیہ

مذکورہ ذیل سہ ماہیہ پر تعلق رکھنے والے - ذیل

#	مذکورہ سہ ماہیہ	نمبر
1	000031587	مذکورہ سہ ماہیہ
2	000028791	مذکورہ سہ ماہیہ
3	000033639	مذکورہ سہ ماہیہ
4	000004210	مذکورہ سہ ماہیہ
5	000033676	مذکورہ سہ ماہیہ

شماره های چکهای دسته بندی شده (فهرست شماره)

شماره	شماره چک دسته بندی شده	#
	000030251	1

شماره های چکهای دسته بندی شده (فهرست شماره، شماره و تاریخ)

شماره	شماره چک دسته بندی شده	#
	000028809	1
	000018764	2

شماره های چکهای دسته بندی شده (فهرست شماره، شماره و تاریخ)

شماره	شماره چک دسته بندی شده	#	شماره	شماره چک دسته بندی شده	#
	000021908	5		000027566	1
	000023216	6		000003182	2
	000014493	7		000028404	3
	000030229	8		000030303	4

شماره های چکهای دسته بندی شده (فهرست شماره)

شماره	شماره چک دسته بندی شده	#	شماره	شماره چک دسته بندی شده	#
	000019374	4		000000877	1
	000029160	5		000028777	2
	000028743	6		000030301	3
	000022077	7			

ذرائع آواز سہولت

ذرائع آواز سہولت سہولت یافتہ شخصیات کے نام - 4

#	ذرائع سہولت	نام
1	000035407	ذرائع سہولت سہولت
2	000028632	ذرائع سہولت سہولت
3	000035173	ذرائع سہولت سہولت

ذرائع آواز سہولت سہولت یافتہ شخصیات کے نام - 5

#	ذرائع سہولت	نام
1	000031680	ذرائع سہولت سہولت
2	000043062	ذرائع سہولت سہولت
3	000030785	ذرائع سہولت سہولت
4	000030783	ذرائع سہولت سہولت

ذرائع آواز سہولت سہولت یافتہ شخصیات کے نام - 6

#	ذرائع سہولت	نام	#	ذرائع سہولت	نام
1	000024153	ذرائع سہولت سہولت	9	000032322	ذرائع سہولت سہولت
2	000025168	ذرائع سہولت سہولت	10	000033703	ذرائع سہولت سہولت
3	000028342	ذرائع سہولت سہولت	11	000001009	ذرائع سہولت سہولت
4	000032700	ذرائع سہولت سہولت	12	000031751	ذرائع سہولت سہولت
5	000032323	ذرائع سہولت سہولت	13	000019246	ذرائع سہولت سہولت
6	000032991	ذرائع سہولت سہولت	14	000015605	ذرائع سہولت سہولت
7	00009892	ذرائع سہولت سہولت	15	000024710	ذرائع سہولت سہولت
8	000028553	ذرائع سہولت سہولت	16	000028614	ذرائع سہولت سہولت

مجموعہ آئی آر ایس آر ایس کے ناموں پر

مرد	آئی آر ایس آر ایس نمبر	#	مرد	آئی آر ایس آر ایس نمبر	#
آئی آر ایس آر ایس	000033635	6	آئی آر ایس آر ایس	000032406	1
آئی آر ایس آر ایس	000033043	7	آئی آر ایس آر ایس	000028219	2
آئی آر ایس آر ایس	000009182	8	آئی آر ایس آر ایس	000031206	3
آئی آر ایس آر ایس	000028728	9	آئی آر ایس آر ایس	000033137	4
			آئی آر ایس آر ایس	000019713	5

مجموعہ آئی آر ایس آر ایس کے ناموں پر

مجموعہ آئی آر ایس آر ایس کے ناموں پر

مرد	آئی آر ایس آر ایس نمبر	#	مرد	آئی آر ایس آر ایس نمبر	#
آئی آر ایس آر ایس	000036977	6	آئی آر ایس آر ایس	000037426	1
آئی آر ایس آر ایس	000005148	7	آئی آر ایس آر ایس	000026131	2
آئی آر ایس آر ایس	000037639	8	آئی آر ایس آر ایس	000026340	3
آئی آر ایس آر ایس	000037524	9	آئی آر ایس آر ایس	000032811	4
آئی آر ایس آر ایس	000037614	10	آئی آر ایس آر ایس	000032725	5
آئی آر ایس آر ایس	000028362	11			

مجموعہ آئی آر ایس آر ایس کے ناموں پر (آئی آر ایس آر ایس، آئی آر ایس آر ایس)

مرد	آئی آر ایس آر ایس نمبر	#
آئی آر ایس آر ایس	000028345	1
آئی آر ایس آر ایس	000028053	2



مجموعہ آئی سی سی کے (فیسز، فیسز، فیسز)

موضوع	فیس نمبر	#	موضوع	فیس نمبر	#
ایس ڈی ایف	000028157	5	ایس ڈی ایف	000024052	1
ایس ڈی ایف	000024021	6	ایس ڈی ایف	000007422	2
ایس ڈی ایف	000023660	7	ایس ڈی ایف	000028192	3
ایس ڈی ایف	000028129	8	ایس ڈی ایف	000021106	4

مجموعہ آئی سی سی کے (فیسز، فیسز، فیسز)

موضوع	فیس نمبر	#
ایس ڈی ایف	000001696	1
ایس ڈی ایف	000028271	2
ایس ڈی ایف	000023870	3
ایس ڈی ایف	000028242	4

مجموعہ آئی سی سی کے (فیسز، فیسز، فیسز)

موضوع	فیس نمبر	#	موضوع	فیس نمبر	#
ایس ڈی ایف	000014968	6	ایس ڈی ایف	000019406	1
ایس ڈی ایف	000016851	7	ایس ڈی ایف	000013208	2
ایس ڈی ایف	000028935	8	ایس ڈی ایف	000014837	3
ایس ڈی ایف	000016123	9	ایس ڈی ایف	000008705	4
			ایس ڈی ایف	000028838	5

مجموعہ آئی سی سی کے (فیسز، فیسز، فیسز)

موضوع	فیس نمبر	#
ایس ڈی ایف	000011086	1
ایس ڈی ایف	000011085	2
ایس ڈی ایف	000011097	3

دُورِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ

اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ

مَدِينَةٍ	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	#	مَدِينَةٍ	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	#
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000030624	6	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032841	1
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000035330	7	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000034970	2
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000035578	8	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000023637	3
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000035060	9	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000034943	4
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000034174	10	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000005203	5
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033113	11			

اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ

مَدِينَةٍ	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	#	مَدِينَةٍ	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	#
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000029218	15	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033487	1
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032651	16	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000017911	2
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000004705	17	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033380	3
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000016867	18	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000004958	4
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000023582	19	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000025587	5
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033743	20	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000025692	6
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033686	21	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000028797	7
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033671	22	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033371	8
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032407	23	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032341	9
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032200	24	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000029209	10
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000007427	25	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000004957	11
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000032424	26	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000029199	12
اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000016300	27	اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000019125	13
			اَلْمَدِينَةِ اَلْمَدِينَةِ	000033721	14

شماره های ثبت شده در دفتر اسناد رسمی

شماره	شماره ثبت شده	#	شماره	شماره ثبت شده	#
شماره ۱	۰۰۰۰۱۳۳۳۳	۱	شماره ۵	۰۰۰۰۳۴۱۱۰	۵
شماره ۲	۰۰۰۰۲۳۹۷۲	۲	شماره ۶	۰۰۰۰۳۳۳۴۷	۶
شماره ۳	۰۰۰۰۳۲۶۵۷	۳	شماره ۷	۰۰۰۰۳۴۱۰۴	۷
شماره ۴	۰۰۰۰۰۷۲۴۴	۴	شماره ۸	۰۰۰۰۳۴۱۰۶	۸

شماره های ثبت شده در دفتر اسناد رسمی

شماره های ثبت شده در دفتر اسناد رسمی - شماره های ثبت شده

شماره	شماره ثبت شده	#
شماره ۱	۰۰۰۰۲۴۹۱۸	۱

شماره های ثبت شده در دفتر اسناد رسمی - شماره های ثبت شده

شماره	شماره ثبت شده	#	شماره	شماره ثبت شده	#
شماره ۱	۰۰۰۰۰۶۱۲۷	۱	شماره ۱۶	۰۰۰۰۰۶۱۸۲	۱۶
شماره ۲	۰۰۰۰۱۵۳۷۴	۲	شماره ۱۷	۰۰۰۰۲۶۸۰۶	۱۷
شماره ۳	۰۰۰۰۰۶۱۲۴	۳	شماره ۱۸	۰۰۰۰۱۱۲۱۸	۱۸
شماره ۴	۰۰۰۰۳۷۹۶۶	۴	شماره ۱۹	۰۰۰۰۳۷۱۷۶	۱۹
شماره ۵	۰۰۰۰۰۷۰۱۱	۵	شماره ۲۰	۰۰۰۰۱۱۵۶۲	۲۰
شماره ۶	۰۰۰۰۰۶۹۵۲	۶	شماره ۲۱	۰۰-۰۰۱۳۸۲۸	۲۱
شماره ۷	۰۰۰۰۲۶۷۵۶	۷	شماره ۲۲	۰۰۰۰۰۱۶۴۵	۲۲
شماره ۸	۰۰۰۰۳۲۷۰۲	۸	شماره ۲۳	۰۰۰۰۳۵۱۶۹	۲۳
شماره ۹	۰۰۰۰۰۳۲۸۲	۹	شماره ۲۴	۰۰۰۰۰۲۷۸۳	۲۴
شماره ۱۰	۰۰۰۰۳۲۹۰۰	۱۰	شماره ۲۵	۰۰۰۰۲۹۰۴۳	۲۵
شماره ۱۱	۰۰۰۰۱۱۴۴۷	۱۱	شماره ۲۶	۰۰۰۰۰۱۸۶۷	۲۶
شماره ۱۲	۰۰۰۰۰۰۳۷۱۳	۱۲	شماره ۲۷	۰۰۰۰۳۷۹۳۵	۲۷
شماره ۱۳	۰۰۰۰۰۰۳۷۱۳	۱۳	شماره ۲۸	۰۰۰۰۰۲۲۸۳	۲۸
شماره ۱۴	۰۰۰۰۲۹۶۹۱	۱۴			
شماره ۱۵	۰۰۰۰۰۳۵۴۵	۱۵			



گوشه و نایب سنج و نایب امر ایله نایب سنج

مرد	قرعه نوم سردمه	#	مرد	قرعه نوم سردمه	#
قرعه نوم سردمه	000027259	16	ره قراله ذره ذره	000037205	1
قرعه نوم سردمه	000001823	17	ره قراله سوره	000004953	2
قرعه نوم سردمه	000002955	18	ره قراله سج ربه	00002104	3
قرعه نوم سج ربه	000027248	19	ره ذره قره سوره	000028854	4
ره سوره سج ربه	000004945	20	ره سوره ره ذره	00006552	5
ره سوره ره قراله ذره	000010240	21	ره سوره ره ذره	000021560	6
ره ذره ذره ذره	000014928	22	ره سوره سوره ذره	00009117	7
ره ذره سج ربه	000028209	23	ره ذره ذره ذره	000006857	8
ره ذره ره قراله	000012066	24	ره ذره سج ربه	000028623	9
ره ذره ره ذره	000010639	25	ره ذره سج ربه	000042376	10
ره ذره سج ذره	000023683	26	ره سوره ذره ذره	000011236	11
ره ذره ذره سج ربه	000022958	27	ره سوره سج ذره	000011158	12
ره ذره ذره سج ربه	000031704	28	قرعه نوم ره ذره	000010491	13
ره ذره ره ذره سج ربه	000027265	29	قرعه نوم ره ذره	000018947	14
ره سوره ره ذره سج ربه	000016060	30	قرعه نوم ره ذره	000024070	15
ره ذره ره ذره سج ربه	000007173	31			





# MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

UNIVERSITY OF PERADENIYA, SRI LANKA

AND

THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY

26<sup>th</sup> March 2015

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as “MoU”) is made on this 26<sup>th</sup> day of March 2015, between The Maldives National University formed by an Act of Parliament of the Maldives (Law 3/2011) and the University of Peradeniya, Sri Lanka, a public university of Sri Lanka for establishment of collaborative academic.

It is hereby agreed that the two institutions shall cooperate on the following.

1. The parties wish to promote cultural and scholarly interaction between the two universities, dissemination of learning and development of understanding.
2. Exchange of students for study and research at both universities.
3. Exchange of teachers, scholars and administrators.
4. Curriculum development.
5. Capacity building and training programs.
6. Joint research programs.
7. Collaborate in the development of academic and research quality in the field of Epidemiology & Public Health and other related specialties.
8. Explore the opportunity for suitability qualified and funded students to join relevant postgraduate programs for the purpose of this leading to higher degrees for example MPh, PhD, etc.
9. Identification of special short term academic programs and projects of mutual benefit to both institutions.
10. Any other collaborative efforts that both parties may deem fit from time to time.

## 1. Implementation

- 1.1 In order to carry out the above-mentioned activities, detailed plans of the academic cooperation, strategies for the interactions, and mechanisms leading to the exchange of students and personnel shall be formed through consultation between the two institutions and expressed in separate academic agreements.
- 1.2 Both institutions shall agree to seek financial support for the mutually agreed cooperative activities defined in the above from appropriate agencies of their respective government and other agencies.
- 1.3 This MoU will be effective for five (5) years after the date of signing. This agreement is renewed automatically as long as neither party gives notice of termination to the other.
- 1.4 The notice of termination of this MoU needs to be given six (6) months in advance.



- 1.5 Any doubt, difference, or dispute arising out of or in connection with this MoU shall be amicably settled through mutual consultation.
- 1.6 The present MoU should not be interpreted in the sense of having created a legal or financial relationship between the parties. It constitutes a memorandum of understanding which aims to provide academic cooperation between the parties between the parties.

## 2. Confidentiality

- 2.1 Neither Party shall at any time disclose to any other third party any confidential information of the Parties, acquired pursuant to this MoU without the written consent of the other Party.
- 2.2 For the purpose of this MoU, “Confidential Information” means any and all technical and non-technical information including patent, copyright, trade secret, know-how and proprietary information, techniques, sketches, drawings, diagrams, methods, processes, apparatus, equipment, algorithms, software programs, software source documents, and formulae related to a technology or invention, and includes, without limitation, its respective information concerning research, experimental work, development, design details and specifications, engineering, financial information, procurement requirements, purchasing manufacturing, customer list, business forecasts, sales and merchandising and marketing plans and information designated in writing to be confidential or by its nature intended to be for the sole knowledge of the receiving party or if orally given in the circumstances of confidence or confirmed promptly in writing as having been disclosed as confidential or proprietary for the purpose of this MoU; that is conveyed by the disclosing party to the receiving party, in written, oral, digital, magnetic, photographic and/or whatsoever forms;
- 2.3 No Party shall publish or otherwise make public the contents of this MoU and any Confidential Information made available to each other without the prior written consent of the other Party.

## 3. Research Collaboration

- 3.1 Either party to this MoU may propose to the other specific individual research projects for collaboration. Such proposals may be made at any time and an individual project agreement will be drafted for each research project. The protection and exploitation of any valuable intellectual property arising out of a research project will be addressed in each individual project agreement.

4. Notices

4.1 Any notice or communication between the Parties shall be delivered to the address, sent to the facsimile number or emailed to the following.

THE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY

*Address*

The Maldives National University  
Central Administrative Office  
Radhdhebai Hin'gun, Male 3072  
Republic of Maldives

Telephone No: +960 3345118  
Facsimile No: +960 3344091  
Contact person: Vice Chancellor  
Email address: vc@mnu.edu.mv

UNIVERSITY OF PERADENIYA

*Address*

University of Peradeniya,  
Peradeniya,  
Sri Lanka

Telephone No: +94-81 238 8151  
Facsimile No: +94-81 238 9164  
Contact person: Vice Chancellor  
Email address: vc@pdn.ac.lk

IN WITNESS WHEREOF The Maldives National University AND University of Peradeniya hereunto have executed this Memorandum of Understanding on the year and date first above written:

SIGNED BY

For and on behalf of  
University of Peradeniya

.....  
Professor Atula Senaratne  
*Vice Chancellor*

In the presence of

.....

SIGNED BY

For and on behalf of  
The Maldives National University

.....  
Hassan Hameed  
*Vice Chancellor*

In the presence of

.....

ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ  
 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ  
 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ  
 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ  
 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ  
 ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ސަލާމް ޤަނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއްގެ

**Memorandum of Understanding (MOU) between  
 South Asian University  
 And  
 The Maldives National University**

South Asian University with its headquarters in New Delhi, India (hereinafter referred to as ‘SAU’) and the Maldives National University with its headquarters in Male’, Maldives (hereinafter referred to as ‘MNU’) established by the Act (3/2011) of Parliament of the Maldives hereby agree to the following :

**Article 1  
 Objectives**

The MOU, while seeking to facilitate the broad academic objectives of each institution and to promote better understanding between its academic communities, shall strive towards the following among others:

- a. enhancing learning in the South Asian Community that promotes an understanding of each other’s perspectives and strengthen regional consciousness;
- b. providing liberal and humane education to the brightest and the most dedicated students of South Asia so that a new class of quality leadership is nurtured;
- c. enhancing capacity building of the South Asian nations in science, technology and other areas of higher learning vital for improving their quality of life; and
- d. contributing to increase of knowledge about the rich cultural heritage of the region while respecting diversity through research and promotion works of literature, folklore, performing arts, fine arts, diminishing arts, the classical literatures and arts as also of traditional knowledge systems and the dissemination of the same.

## **Article 2**

### **Areas of Cooperation**

- a. Both sides will, in order to achieve objectives set out in Article 1, jointly develop collaborations/work plans that describe more specifically the activities to be carried out from time to time.
- b. Both sides will, while developing collaborations/work plans take into account, their mutual areas of interest, felt need for the available expertise and facilities, availability of funds and feasibility for sustained implementation.
- c. The envisaged areas of cooperation and collaboration may be as follows:
  - i. Exchange of faculty members;
  - ii. Exchange of students, scholars, teachers and experts;
  - iii. Joint research programmes and publications;
  - iv. Mutual sponsoring and participation in academic seminars and meetings;
  - v. Organization of joint conferences, exhibitions and seminars;
  - vi. Exchange of academic publications, materials and information;
  - vii. Special short-term academic programmes;
  - viii. Exchange of administrative personnel;
  - ix. Joint cultural programmes.
  - x. Joint teaching;
  - xi. Joint conferences/seminars/workshops;
  - xii. Summer and winter schools
  - xiii. Examine the possibility of mutual recognition of educational qualifications;
  - xiv. Any other activity as agreed by both parties.

## **Article 3**

### **Implementation**

- a. The terms of the specific research collaboration/programmes or work plans and its funding mechanisms under this MOU shall be mutually discussed and agreed upon in writing by both sides prior to its initiation.
- b. Each side shall designate a Coordinator/Liaison Officer to develop and coordinate specific activities or programmes

## **Article 4**

### **Funding and Finance**

- a. Both sides shall decide their funding mechanism through mutual consultations and discussions.
- b. Both sides shall endeavor to, jointly or independently, explore funding from third parties through Governmental or non-Governmental funding agencies.
- c. As a general rule and unless otherwise agreed, normally the home University/Institution will have the responsibility of meeting the travel and other incidental expenses and host University/Institution will have the responsibility of local hospitality in terms of accommodation, boarding to facilitate the academic (faculty, students and staff) exchange.

## **Article 5**

### **Academic Exchange Requirements**

In case of academic exchange programmes, specifically with regard to student exchanges, host university/institution will have the right to accept or reject the nomination based upon its admission policy and also based upon the suitability of the academic qualifications of the student to the nominated programme of study.

## **Article 6**

### **Intellectual Property Rights**

- a. Unless otherwise agreed specifically in writing, all rights, title and interests in any studies, reports, data sets, research and other materials conducted on a joint/collaborative basis based on the present MOU shall belong to both sides.
- b. Publications and research outcomes jointly produced by both sides shall be disseminated, or published upon mutual agreement. Prior to publication or dissemination of the joint/collaborative research outputs both sides shall decide upon obtaining appropriate intellectual property rights after mutual consultation and after recognizing the rights of collaborating institutions and donors, as the case may be.
- c. The provision of this agreement shall survive the termination of this MOU.

## **Article 7**

### **Institutional Autonomy**

Nothing shall diminish the full autonomy of either Party, nor will any constraints or financial obligations be imposed by either Party upon the other, in carrying out the MOU, unless otherwise mutually agreed to.

## **Article 8**

### **Privileges and Immunities**

Nothing relating to this MOU shall be deemed a waiver, express or implied, of any of the privileges and immunities of the South Asian University.

## **Article 9**

### **Use of Name and Emblem**

Neither side shall use the name, emblem or trademarks of the other party, or any of its subsidiaries, and /or affiliates, or an abbreviation thereof, without the express prior written approval of the other party in each case. In no event will authorization to use the South Asian University name or emblem, or any abbreviation thereof, be granted for commercial purposes, or for use in any manner that suggests an endorsement by SAU of Partner programmes, activities, services, etc.

Nothing in this MOU grants to partner the right to create a hyperlink to the SAU and/or SAARC website. Such link may be created only with SAU's written authorization.

**Article 10**  
**Amendments and Interpretation**

- a. The MOU may be amended by both sides by mutual consent through exchange of written communications/letters by designated competent authorities as per their rules and regulations
- b. Any amendment effected through above procedure shall form an integral part of the MOU.
- c. Any difference in interpreting or working of the MOU shall be resolved through mutual consultations.

**Article 11**  
**Final Clauses**

- a. The MOU shall come into effect from the date of signature by the competent designated authorities of the respective institutions/universities.
- b. The MOU shall remain in force for a period of three years from the date of its signature.
- c. The MOU would be deemed automatically extended for a further period of three years unless either side decides to rescind it by six-month advance written notice before its expiration

In witness thereof the authorized representatives whose names are shown below have signed this MOU in two originals copies in English on behalf of their respective institutions/universities at the place and on date mentioned below.

---

*President*  
South Asian University  
New Delhi, India  
Dated:

---

*Vice Chancellor*  
The Maldives National University  
Male', Maldives  
Dated:

UC  
**264**

דבריו של הנשיא ברק אובמה נשענו על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

7/15/2015 | תאריך: 175

הנשיא ברק אובמה נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

UC  
**265**

הנשיא ברק אובמה נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

8/8/2015 | תאריך: 176

הנשיא ברק אובמה נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

UC  
**266**

הנשיא ברק אובמה נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

15/8/2015 | תאריך: 177

הנשיא ברק אובמה נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו. הדבר נשען על הצהרה שאותה ניתן להבחין בהיותה עקביתתו.

#	שם	תאריך/תאריכים	דפוס
1	הצהרת הנשיא ברק אובמה	15/8/2015	דפוס
2	הצהרת הנשיא ברק אובמה	8/8/2015	דפוס
3	הצהרת הנשיא ברק אובמה	8/8/2015	דפוס
4	הצהרת הנשיא ברק אובמה	8/8/2015	דפוס
5	הצהרת הנשיא ברק אובמה	8/8/2015	דפוס

